



en Xylem optimyze® Pressure Sensor Quick Start Guide

*Before starting, refer to optimyze® Start Guide and configure optimyze sensors via mobile app.

- To connect an optimyze pressure sensor, press “+” sign from the app dashboard. Follow the app directions to enter serial numbers by scanning QR code or manual entry.
- Select operating mode from the screen.
- If Differential Pressure Mode is selected, scan QR code or manually enter the serial number of the second pressure sensor.
- Put optimyze sensor in configuration mode (place magnet supplied with the sensor over Bluetooth® icon until LED blinks pink) and scan QR code or manually enter the serial number of optimyze device.
- Click “Save” button and wait until mobile application returns to dashboard.
- optimyze sensors must be less than 30 m (100 ft) from pressure sensor to pair.
- optimyze sensor will blink light blue while communicating with pressure sensor.

Xylem Inc. | Tel 866.673.0428 | Fax 888.322.5877 | www.xylem.com/optimyze

Xylem and optimyze® are trademarks of Xylem, Inc. or one of its subsidiaries. The use by Transducers Direct LLC is under license. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Xylem Inc. and Transducers Direct LLC is under license. All other trademarks or registered trademarks are property of their respective owners.

Transducers Direct LLC, 12115 Ellington Ct., Cincinnati, OH 45249, USA
Made for Xylem Inc., 8200 Austin Avenue, Morton Grove, IL 60053 USA - www.xylem.com/optimyze.

lt Trumpasis „Xylem optimyze®“ slėgio jutiklio vadovas

*Pradžioje perskaitykite „optimyze®“ pasirengimo darbui vadovą ir per programoje mobiliesiems sukonfigūruokite „optimyze“ jutiklius.

- Jei norite prijungti „optimyze“ slėgio jutiklį, programos priemonių skydelyje paspauskite simbolį „+“. Vadovaudamiesi programa pateikiamais nurodymais įveskite serijos numerį – nuskaitydami QR kodą ar įvesdami kodą rankiniu būdu.
- Ekrane pasirinkite veikimo režimą.
- Jei pasirinkote diferencinio slėgio režimą, nuskaitykite QR kodą arba rankiniu būdu įveskite antrojo slėgio jutiklio serijos numerį.
- Išjunkite „optimyze“ jutiklio konfiguracijos režimą (udėkite į jutiklį magnetą ant „Bluetooth“ piktoogramos, kol šviesos diodas prades mirkstę rožinę spalvą) ir nuskaitykite QR kodą arba rankiniu būdu įveskite „optimyze“ įrenginio serijos numerį.
- Spustelėkite mygtuką „Išsaugoti“ ir palaukite, kai programa mobiliesiems grįžti į priemonių skydį.
- Susiejant „optimyze“ jutikliai turi būti udaljeni manje od 30 m (100 ft) od senzora pritiska da bi uparivanje bilo moguō.**
- Jungiantis prie slėgio jutiklio „optimyze“ jutiklis pradės mirkseti šviesiai melyna spalva.

Xylem Inc. | Tel 866.673.0428 | Fax 888.322.5877 | www.xylem.com/optimyze

Xylem ir optimyze® yra jėmonės „Xylem, Inc.“ arba jos kontroliuojamos jėmonės prekių ženklai. „Transducers Direct LLC“ yuos naudoja pagal licenciją „Bluetooth“ žodinį ženklą ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, ir bet koks „Xylem Inc.“ ir „Transducers Direct LLC“ tokii ženkli naudojimas yra licencijuotas. Visi kitai prekių ženklai ar registruotieji prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Transducers Direct LLC, 12115 Ellington Ct., Cincinnati, OH 45249, USA
Pagaminta užsakius „Xylem Inc.“, 8200 Austin Avenue, Morton Grove, IL 60053 USA - www.xylem.com/optimyze.

sv Xylem optimyze® Tryckgivare Snabbstartguide

*Innan du börjar, se optimyze® startguide och konfigurera optimyze-sensorer via mobilappen.

- Du ansluter en optimyze tryckgivare genom att trycka på “+” i appens dashboard. Följ anvisningarna i appen för att ange serienummer genom att skanna QR-koden eller manuellt.
- Välj driftläge från skärmen.
- Om Differential Pressure Mode är valt, skanna QR-koden eller ange serienumret för den andra trycksensorn manuellt.
- Sätt optimyze-sensor i konfigurationsläge (placer magneten som medföljer sensorn över Bluetooth®-ikonen tills lysdioden blinkar rosa) och skanna QR-koden eller ange serienumret för optimyze-sensorn manuellt.
- Klicka på knappen ”Spara” och vänta tills mobilapplikationen återgår till instrumentpanelen.
- Optimyze-givarna måste vara mindre än 30 m (100 ft) från tryckgivaren för att kunna anslutas**
- optimyze-givaren blinkar ljusblått när den kommunicerar med tryckgivaren.

Xylem Inc. | Tel 866.673.0428 | Fax 888.322.5877 | www.xylem.com/optimyze

Xylem och optimyze® är registrerade varumärken som tillhör Xylem, Inc. eller något av dess dotterbolag. Användningen av Transducers Direct LLC sker under licens. Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Xylem Inc. och Transducers Direct LLC sker under licens. Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

Transducers Direct LLC, 12115 Ellington Ct., Cincinnati, OH 45249, USA
Tillverkad för Xylem Inc., 8200 Austin Avenue, Morton Grove, IL 60053 USA - www.xylem.com/optimyze.



Please refer to the additional instructions for detailed pairing and mounting instructions.

lt Skaitykite papildomas instrukcijas, jei reikia išsamesnės informacijos apie susiejimą ir tvirtinimą.

sv Se ytterligare anvisningar för detaljerade parnings- och monteringsanvisningar.

no Se tilleggsinstruksene for å finne detaljert informasjon om tilkobling og montering.

sr U dodatnim uputstvima potražite detaljnije instrukcije za uparivanje i montažu.

cs Přečtěte si další pokyny ohledně podrobných pokynů k párování a montáži.

zh 有关详细的配对和安装说明，请参阅附加说明。

hr Detalje potražite u dodatnim uputama za uparivanje i montažu.

no Hurtigveiledning for Xylem optimyze®-trykksensor

*Før du starter, referer til startsveileddingen for optimyze® og konfigurering av optimyze-sensorer via mobilapp.

- Trykk på tegnet «+» på app-dashbordet for å koble til en optimyze-trykksensor. Følg app-veileddingen for å angi serienumre ved å skanne QR-kode eller legge inn manuelt.
- Velg driftsmodus fra skjermen.
- Hvis differansetrykksmodus er valgt, skanner du QR-koden eller angir serienummet til den andre trykksensoren manuelt.
- Sett optimyze-sensoren i konfigurasjonsmodus (plasser magneten som følger med sensoren over Bluetooth®-ikonet til LED-lampen blinker rosa) og skann QR-koden eller skriv inn serienummet til optimyze-enheten manuelt.
- Klikk på «Lagre»-knappen, og vent til mobilapplikasjonen går tilbake til dashbordet.
- optimyze-sensorer må være mindre enn 30 m fra trykksensoren for å kobles til.**
- optimyze-sensoren blinker lyseblått mens den kommuniserer med trykksensoren.

Xylem Inc. | Tel 866.673.0428 | Fax 1 888.322.5877 | www.xylem.com/optimyze

Xylem og optimyze® er varemærker for Xylem, Inc. eller et av dets datterselskaper. Bruken av Transducers Direct LLC er under lisens. Bluetooth®-ordmerket og logoen er registrerte varemærker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Xylem Inc. og Transducers Direct LLC er under lisens. Alle andre varemærker og registrerte varemærker tilhører de respektive eierne.

Transducers Direct LLC, 12115 Ellington Ct., Cincinnati, OH 45249, USA
Fremstilt for Xylem Inc., 8200 Austin Avenue, Morton Grove, IL 60053 USA - www.xylem.com/optimyze.

sr Kratko uputstvo za senzor pritiska Xylem optimyze®

*Pre početka upotrebe, pogledajte kratko uputstvo za optimyze® i konfigurirajte senzore putem mobilne aplikacije.

- Da biste povezali senzor pritiska optimyze, pritisnite znak „+“ na kontrolnoj tabli aplikacije. Pratite uputstvo u aplikaciji za unos serijskih brojeva skeniranjem QR koda ili ručnim unosom.
- Odaberite način rada sa zaslona.
- Ako je izabran režim diferencijalnog tlaka, skenirajte QR kod ili ručno unesite serijski broj drugog senzora pritiska.
- Podesite senzor optimyze u režim konfiguracije (postavite magnet isporučen sa senzorom preko Bluetooth® ikone dok LED indikator ne zatrepi ružičastim svetlom) i skenirajte QR kod ili ručno unesite serijski broj uređaja.
- Pritisnite gumb „Spremi“ i pričekajte dok se mobilna aplikacija ne vrati na upravljačku ploču.
- optimyze senzori moraju biti udaljeni manje od 30 m (100 stopa) od senzora tlaka do para.**
- optimyze senzor će treptati u svjetlo plavoj boji dok komunicira sa senzorom tlaka.

Xylem Inc. | Tel 866.673.0428 | Fax 888.322.5877 | www.xylem.com/optimyze

Xylem i optimyze® su registrirani zaštitni znakovi Xylem, Inc. ili jedne od njegovih područnica. Korištenje od strane Transducers Direct LLC je pod licencom. Riječi i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih znakova od strane tvrtke Xylem Inc. i Transducers Direct LLC je pod licencom. Svi drugi zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.

Transducers Direct LLC, 12115 Ellington Ct., Cincinnati, OH 45249, USA

Priozvedeno za Xylem Inc., 8200 Austin Avenue, Morton Grove, IL 60053 USA - www.xylem.com/optimyze.

uk Короткий посібник користувача датчика тиску Xylem optimyze®

*Перш ніж почати, зверніться до Короткого посібника користувача optimyze® та налаштуйте датчики optimyze® за допомогою мобільного додатка.

- Щоб під'єднати датчик тиску optimyze, натисніть знак «+» на інформаційній панелі додатка. Дотримуйтесь інструкції у додатку та ведіть серійні номери, сканувавши QR-код або вручну.
- Виберіть режим роботи на екрані.
- Якщо вибрали режим диференціального тиску, скануйте QR-код або введіть серійний номер другого датчика тиску.
- Переведіть датчик optimyze в режим конфігурації (помістіть магніт не почине блімати рожевим) і скануйте QR-код або вручну введіть серійний номер пристроя optimyze.
- Натисніть кнопку «Зберегти» та зачекайте, доки мобільний додаток повернеться до відображення інформаційної панелі. Для встановлення з датчиками optimyze іх має бути розташовано менш ніж 30 m (100 футів) від датчика тиску.
- Під час з'вязку з датчиком тиску optimyze бліматиме світло-блакитним.

Xylem Inc. | Tel 866.673.0428 | Fax 888.322.5877 | www.xylem.com/optimyze

Xylem i optimyze® jsou registrované ochranné známky společnosti Xylem, Inc. nebo některé z jejich dceřiných společností. Společnost Transducers Direct LLC je používá na základě licence. Slovní značka a logo Bluetooth® jsou ochrannými registrovanými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání takových známk společnosti Xylem, Inc. a Transducers Direct LLC probíhá na základě licence. Všechny ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Transducers Direct LLC, 12115 Ellington Ct., Cincinnati, OH 45249, USA

Vyrobeno pro společnost Xylem Inc., 8200 Austin Avenue, Morton Grove, IL 60053 USA - www.xylem.com/optimyze.

- cs Průvodce rychlým spuštěním snímače tlaku Xylem optimyze®
- *Než začnete, přečtěte si průvodce uvedením do provozu optimyze® a na konfiguraci optimyze® přes mobilní aplikaci.
- Snímač tlaku optimyze připojte stisknutím symbolu „+“ na řídícím panelu aplikace. Sériová čísla zadejte podle pokynů aplikace buď naskenováním QR kódu, nebo ručním zadáním.
 - Vyberte z obrazovky provozní režim.
 - Pokud je zvolen režim diferenčního tlaku, naskenujte QR kód nebo ručně zadějte sériové číslo druhého tlaku.
 - Snímač optimyze uvedete do konfiguračního režimu (umístěte magnet dodaný se snímačem na ikonu Bluetooth®, dokud LED dioda nezačne blikat růžově) a naskenujte QR kód nebo ručně zadějte sériové číslo zařízení optimyze.
 - Klikněte na tlačítko „Uložit“ a počkejte, dokud se aplikace nevrátí na řídící panel.
 - Snímač optimyze musí být ve vzdálenosti do 30 m (100 stop) od snímače tlaku, s ním se májí právot.**
 - Během komunikace se snímačem tlaku snímač optimyze bude blikat světlem modrého světla.

Xylem Inc. | Tel 866.673.0428 | Fax 888.322.5877 | www.xylem.com/optimyze

Xylem a optimyze® jsou registrované ochranné známky společnosti Xylem, Inc. nebo některé z jejich dceřiných společností. Společnost Transducers Direct LLC je používá na základě licence. Slovní značka a logo Bluetooth® jsou ochrannými registrovanými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání takových známk společnosti Xylem, Inc. a Transducers Direct LLC probíhá na základě licence. Všechny ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Transducers Direct LLC, 12115 Ellington Ct., Cincinnati, OH 45249, USA

Vyrobeno pro společnost Xylem Inc., 8200 Austin Avenue, Morton Grove, IL 60053 USA - www.xylem.com/optimyze.

sk Podrobnej pokyny na párovanie a montáž nájdete v rozšírenom návode od pôvodného výrobcu.

nl Raadpleeg de aanvullende instructies voor gedetailleerde informatie over koppelen en montage-instructies.

fi Katso lisäohjeista yksityiskohtaiset parinmuodostus- ja asennusohjeet.

hu Kérjük, olvassa el a további utasításokat a részletesen párosítási és szerelési utasításokra vonatkozóan.

bg Моля, вижте допълнителните инструкции за съдържанието и монтаж.

lv Lai iepazītos ar sīkākiem montāžas norādījumiem un norādījumiem savienošanai pāri, skatiet papildu instrukcijas.

pl Szczegółowe informacje na temat parowania i montażu znajdują się w instrukcjach dodatkowych.

sl Prosimo, da si preberete dodatna navodila, za bolj podrobna navodila o zaznavanju med napravami in montaži.

ar يرجى الرجوع إلى التعليمات الإضافية للحصول على تعلميات الافتراض والتثبيت التفصيلية.

is Vinsamlegast skoðaðu viðbótarleiðbeiningarnar fyrir nákvæmar þórunar- og uppsettunarleiðbeiningar.

ru Краткое руководство по началу работы с датчиком давления Xylem optimyze®

pt-br Guia de Inicialização Rápida do Sensor de Pressão Xylem optimyze®

*Antes de iniciar, consulte o Guia de Inicialização optimyze® e configure os sensores optimyze por meio do aplicativo móvel.

1 Para conectar um sensor de pressão optimyze, pressione o símbolo "+" no painel do aplicativo. Siga as instruções do aplicativo para inserir os números de série escaneando o QR code ou digitando-os manualmente. 2 Seleccione o modo de operação na tela. 3 Se o Modo de Pressão Diferencial for selecionado, escaneie o QR code ou digite o número de série do segundo sensor de pressão. 4 Coloque o sensor optimyze no modo de configuração (coloque o ímã fornecido com o sensor sobre o ícone Bluetooth® até que o LED piscue em cor-de-rosa) e escaneie o QR code ou digite o número de série do dispositivo optimyze. 5 Clique no botão "Save" e aguarde até que o aplicativo móvel retorne ao painel principal. Os sensores optimyze devem estar a menos de 30 metros (100 pés) do sensor de pressão para serem pareados. 6 O sensor optimyze irá piscar em azul claro durante a comunicação com o sensor de pressão.

Xylem Inc. | Tel 866.673.0428 | Fax 888.322.5877 | www.xylem.com/optimyze

Xylem e optimyze® são marcas comerciais da Xylem, Inc. ou de uma de suas subsidiárias. O uso da Transducers Direct LLC é feito mediante licença. A marca denominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas da propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Xylem Inc. e pela Transducers Direct LLC ocorre mediante licença. Todas as outras marcas registradas ou marcas comerciais são propriedades de seus respectivos proprietários.

Transducers Direct LLC, 12115 Ellington Ct., Cincinnati, OH 45249, USA
Produzido para Xylem Inc., 8200 Austin Avenue, Morton Grove, IL 60053 USA - www.xylem.com/optimyze.

et Rõuhanduri Xylem optimyze® kiirjuhend

*Enne alustamist lugege optimyze®'i käitusjuhendit ja konfigureerige optimyze andurid mobiilirakenduse kaudu.

1 optimyze rõuhanduri ühendamiseks vajutage rakenduse töölaual "+" märki. Järgige rakenduse juhiseid seerianumbrise sisestamiseks QR-koodi skannimise teel või sisestades neid käsitsi. 2 Valige kultuuritõrke. 3 Kui valitud on diferentsialrõhurežiim, skannige QR-koodi või sisestage käsitsi teise rõuhanduri seerianumber. 4 Pange optimyze andur seadistusrežiimi (paigutage anduriga kaasas olev magnet Bluetooth-ikooni kohale, kuni LED vilgub roosal) ja skannige QR-kood või sisestage käsitsi optimyze-seadme seerianumber. 5 Klõpsake salvestamise nuppu ja oodake kuni mobiilirakendus näases töölaule. optimyze andurid peavad sidumiseks olema vähem kui 30 m kaugusel rõuhandurist. 6 optimyze andur vilgub helesinise tulega, kui rõuhanduriga suhtleb.

Xylem Inc. | Tel 866.673.0428 | Fax 888.322.5877 | www.xylem.com/optimyze

Xylem ja optimyze® on ettevõtte Xylem, Inc. või mõne selle tütarettevõtte regiseeritud kaubamärgid. Transducers Direct LLC kasutamine lubatud vaid liitsenti alusel. Bluetooth® sõnarmärk ja logo on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. regiseeritud kaubamärgid ning Xylem Inc. kasutab neid liitsenti alusel. Kõik muud kaubamärgid või regiseeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Transducers Direct LLC, 12115 Ellington Ct., Cincinnati, OH 45249, USA
Loodud ettevõtte Xylem Inc., 8200 Austin Avenue, Morton Grove, IL 60053 USA - www.xylem.com/optimyze.

ar دليل البدء السريع لمستشعر الضغط ar

قبل البدء، راجع دليل بدء عمل ملخص معلومات التطبيق. اضغط على علامة "+" من لوحة معلومات التطبيق، اختر إرشادات التطبيق لـ "الدخول إلى التطبيق".

1 أضف خطوة "الخطوة الأولى: إدخال الترخيص" إلى خطوات التثبيت. (3) إذا تم تحديد وضع المنسابلية التقاضي، امسح رقم الاستجابة البر姆ية ضوئياً أو انقل الرمز التسلسلي المستشعر الضغط الشريطي بيدوا.

2 ضع مستشعر optimyze في وضع الباهية (وضع المغناطيس المزدوج مع المستشعر الضغط الأفونه Bluetooth®). (5) انقل على الزر موثر LED (لون الوردي) وأمسح رقم الاستجابة البرمية ضوئياً أو انقل الرمز التسلسلي لجهة اليمين (5) "ونظراً لأن مستشعر optimyze يحتوي على لوحة المعلومات. يجب أن تكون مستشعرات optimyze متقدمة بمقدار 30 متراً (100 ft) من مستشعر الضغط لتقديرها. (6) ضع مستشعر optimyze على اللوحة المائية الفاصلة بين الأزرار المفاتيح.

3 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

4 تأكد من أن مستشعر optimyze قد تم تثبيته على الأجزاء الخارجية المائية المطلوبة لاحتياطها. (5) قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

5 تأكد من أن مستشعر optimyze قد تم تثبيته على الأجزاء الخارجية المائية المطلوبة لاحتياطها. (6) قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

6 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

7 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

8 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

9 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

10 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

11 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

12 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

13 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

14 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

15 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

16 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

17 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

18 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

19 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

20 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

21 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

22 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

23 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

24 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

25 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

26 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

27 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

28 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

29 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

30 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

31 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

32 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

33 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

34 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

35 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

36 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

37 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

38 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

39 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

40 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

41 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

42 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

43 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

44 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

45 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

46 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

47 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

48 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

49 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.

50 قم بتنزيل تطبيق Xylem optimyze | www.xylem.com/optimyze | فاكس 888.322.5877 | فاكس 866.673.0428 | Xylem Inc.